



## سوال

(74) نماز میں وَلَا الضَّالِّينَ کے بعد رَبِّ اغْفِرْ لِي آمین :- کتنا

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

وَلَا الضَّالِّينَ کے بعد نماز میں ’رَبِّ اغْفِرْ لِي آمین‘ کتنا مسنون ہے یا نہیں؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

حسن حصین میں طبرانی سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب **وَلَا الضَّالِّينَ** کہتے تو "رَبِّ اغْفِرْ لِي آمین" کہتے اور لفظ حدیث کا یہ ہے۔

وصین قال وَلَا الضَّالِّينَ قال رَبِّ اغْفِرْ لِي آمین [1]

(جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا الضَّالِّينَ پڑھتے تو کہتے رَبِّ اغْفِرْ لِي آمین اے میرے رب مجھے بخش دے اور قبول فرما)

حسن حصین میں طبرانی سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب **وَلَا الضَّالِّينَ** کہتے تو "رَبِّ اغْفِرْ لِي آمین" کہتے، اور لفظ حدیث کا یہ ہے:

((وصین قال وَلَا الضَّالِّينَ قال رب اغفر لي آمین)) [1]

[جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا الضَّالِّينَ پڑھتے تو کہتے: "رب اغفر لي آمین" اے میرے رب مجھے بخش دے اور قبول فرما]

طبرانی کی اس حدیث کی سند معلوم نہیں اور طبرانی بھی یہاں موجود نہیں کہ اس میں سند دیکھی جائے، لیکن حسن حصین کے دیباچے میں صاحب حسن حصین نے لکھا ہے کہ میں نے اس کتاب کو صحیح حدیثوں سے نکالا ہے اور دوسری جگہ دیباچہ میں لکھا ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ جو کچھ حدیثیں اس کتاب میں ہیں، سب صحیح ہوں۔ [2] صاحب حسن حصین کے ان اقوال سے مضمون یہی ہے کہ یہ حدیث بھی صحیح ہو، اگر ایسا ہے تو بعد **وَلَا الضَّالِّينَ** کے "رَبِّ اغْفِرْ لِي آمین" کتنا مسنون ہوگا۔

[1] المعجم الکبیر للطبرانی (۳۲/۲۲) سنن البیہقی (۵۸/۲) اس کی سند میں "أحمد بن عبد الجبار العطاردي" ضعیف ہے۔



[2] علامہ عبدالعزیز بن عبدہ بن بازرجمہ اللہ سے کتاب ”حصن حصین“ میں مندرجہ احادیث کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہر طرح کی احادیث مذکور ہیں، لہذا اس میں مذکورہ روایات پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اس سلسلے میں بنیادی کتب اور اہل علم کے کلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ (فتاویٰ نور علی الدرب، ص: ۳۸۸) نیز امام شوکانی رحمہ اللہ نے بھی اس کتاب کی شرح ”تحفۃ الذاکرین بعدۃ الحصن الحصین“ میں انہیں خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ دیکھیں: تحفۃ الذاکرین (ص: ۲)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

## مجموعہ فتاویٰ عبداللہ غازی پوری

کتاب الصلاة، صفحہ: 176

محدث فتویٰ